

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن نے بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے ایک نئی آن لائن ڈائریکٹری متعارف کرائی ہے

برامپٹن، آن (21 اپریل 2022) – سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن کے عمر کے موافق سہولیات کی فراہمی کے وژن کو مزید آگے بڑھانے اور کمیونٹی میں روابط کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نیا آن لائن وسیلہ شروع کیا ہے۔ عمر رسیدہ افراد کی نئی ریسورس ڈائریکٹری، بزرگ افراد اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے وسائل اور خدمات تک رسائی کو بڑھانے میں مدد فراہم کرنے کا ایک آن لائن ٹول ہے۔

ڈائریکٹری میں دستیاب وسائل میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

- گھریلو اور سماجی معاونت
- نقل و حمل
- صحت اور تندرستی
- مالیات اور رسائی میں معاونت
- ذہنی صحت
- نئے آنے والوں کے لیے معاونت

مارچ 2021 میں سٹی آف برامپٹن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) کے گلوبل نیٹ ورک فار ایج فرینڈلی سٹیٹز اور کمیونٹیز کا رکن بن گیا تھا۔ نیٹ ورک کے ممبران WHO کی جانب سے متعین کردہ عمر کے موافق طرز عمل کی اقدار اور اصولوں کا باہمی اشتراک کرتے ہیں اور انہیں فروغ دیتے ہیں، عمر کے موافق ماحول بنانے کا عہد کرتے ہیں اور اپنے نیٹ ورک میں فعال طور پر حصہ لینے پر رضامند ہوتے ہیں۔

بزرگ افراد کی ریسورس ڈائریکٹری برامپٹن کے عمر رسیدہ شہریوں کی سماجی شرکت کی حوصلہ افزائی کرنے، سماجی تنہائی کی شناخت کرنے اور معلومات اور مواصلات کے لیے وسائل فراہم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اس میں برامپٹن کی [عمر کی مناسبت سے دوستانہ حکمت عملی اور ایکشن پلان](#) میں بیان کردہ تمام معاونتیں شامل ہیں۔

ڈائریکٹری کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کے حصول کے لیے، سٹی آف برامپٹن کو گورنمنٹ آف کینیڈا کے نیو ہورائزنز فار سینئرز پروگرام کی جانب سے 20,575 ڈالر کی گرانٹ فنڈنگ موصول ہوئی ہے۔

نئی سینئرز ریسورس ڈائریکٹری دستیاب شدہ سپورٹ سروسز اور کلیدی کمیونٹی ٹچ پوائنٹس کے بارے میں معلومات تک رسائی میں آسانی پیدا کرے گی اور ہماری کمیونٹی کے کووڈ-19 وباء سے بحالی کی جانب سفر کے دوران برامپٹن کے بزرگ افراد کے لیے روابط اور سماجی طور پر مصروف رہنے کے مواقع کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد ملے گی۔

سینئرز ریسورس ڈائریکٹری کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [brampton.ca/agefriendly](http://brampton.ca/agefriendly) ملاحظہ کریں۔

ڈائریکٹری میں پائی جانے والی کسی بھی معلومات کے لیے متبادل فارمیٹ کے خواہشمند افراد [agefriendly@brampton.ca](mailto:agefriendly@brampton.ca) پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔

اقتباسات

"2006 میں، برامپٹن میں 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تقریباً 34,000 لوگ موجود تھے۔ 2016 تک یہ تعداد بڑھ کر 66,000 ہو گئی تھی۔ برامپٹن میں ہمارے انتہائی قابل قدر بزرگ افراد موجود ہیں جن کی شاندار خدمات کی مدد سے ہمارے شہر کو تقویت ملتی ہے۔ سٹی آف برامپٹن کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہونے اور اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بزرگ افراد کی نئی ریسورس ڈائرکٹری ایسے ٹولز فراہم کرے گی جو ہماری عمر رسیدہ آبادی کو اہم روابط بنانے اور ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے درکار ہیں۔"

- بیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے؛ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں بزرگوں کی قدر کی جاتی ہے، ان کی حمایت کی جاتی ہے اور وہ کمیونٹی میں ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں اپنی کمیونٹی میں زیادہ مصروفیت مہیا کرنے کے ذریعے، ہم نے اپنے بزرگوں کو برامپٹن سے متعلق مخصوص معلومات فراہم کرنے کے لیے بزرگ افراد کی نئی ریسورس ڈائرکٹری بنائی ہے کیونکہ ہم ہر ایک کے لیے برامپٹن کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانا جاری رکھے ہوئے ہیں۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"2006 اور 2016 کے درمیان، برامپٹن کی بزرگ آبادی میں 196 فیصد اضافہ ہوا اور یہ اضافہ ابھی تک جاری ہے۔ سٹی آف برامپٹن کو عمر کے لحاظ سے ایک دوستانہ شہر بنانے اور ایسے آلات اور وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے جو ہماری عمر رسیدہ آبادی کو اپنی زندگی کے اگلے سالوں میں ترقی کے لیے درکار ہیں۔"

- پال مورینسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جنت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)